

224035-روایت (کتنے ہی قاری قرآن ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔

## سوال

کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ کتنے ہی قرآن کو پڑھنے والے ہیں جنہیں قرآن لعنت کرتا ہے؟

## پسندیدہ جواب

ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کے بارے میں کسی دلیل کا علم نہیں ہے۔

البته سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی طرف علامہ غزالیؒ نے "ایحاء علوم الدین" میں اسے منوب کیا ہے، چنانچہ آپ کہتے ہیں : "کتنے ہی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔" ختم شد

"ایحاء علوم الدین" (274/1)

اسی طرح دامنی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ : (213/3) دوسری ایڈیشن، میں ہے کہ :

"یہ بات میمون بن حمران سے متفق ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متفق ہے۔"

اس کا مطلب یہ ہے کہ : مسلمان کو قرآن کریم پر عمل کے بغیر پڑھنے سے خبردار کیا گیا ہے؛ کیونکہ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ایسے کام بھی کرتے ہیں جن سے قرآن کریم روکتا ہے، مثلاً : قرآن کریم سودی لین دین سے روکتا ہے لیکن وہ پھر بھی سودی لین دین کرتا ہے، قرآن کریم ظلم سے روکتا ہے لیکن پھر بھی وہ ظلم کرتا ہے، اسی طرح قرآن کریم غیبت سے روکتا ہے لیکن وہ پھر بھی غیبت کرتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کے دیگر احکامات اور ممنوعہ اعمال کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔" ختم شد

شیع ابن باز رحمہ اللہ سے اس حدیث (کتنے ہی قرآن کو پڑھنے والے ہیں جنہیں قرآن لعنت کرتا ہے) کے بارے میں پوچھا گیا کہ قرآن کریم کیسے لعنت کرتا ہے؟

تو آپ رحمہ اللہ نے جواب دیا :

"نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحیح ثابت ہو مجھے علم نہیں ہے، اس لیے اس کی تفسیر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔"

اگر یہ صحیح ثابت ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ : قرآن کریم میں ایسی چیزیں جو اس شخص کی مذمت اور لعنت کا تھا ضاکرتی ہیں، مثلاً : وہ شخص قرآن کریم بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، یا ممنوعہ کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ شخص اللہ کی کتاب بھی پڑھتا ہے لیکن قرآن کریم کے احکامات اور ممنوعات کا خیال نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ برا بھلا کملائے جانے کا خدھار ٹھہرتا ہے۔

اگر یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہو جائے تو اس کا صحیح ترین معنی یہی ہو گا۔" ختم شد

"مجموع فتاویٰ ابن باز" (61/26)

واللہ اعلم